



سوال

(866) لفظ ”اَنْسَ“ اس کی درستگی کیسی ہوگی۔؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

لفظ ”اَنْسَ“ اس کی درستگی کیسی ہوگی۔ حالانکہ میں نے حدیث میں {عَنْ اَنْسِ} پڑھا ہے جبکہ میرے تایا زاد بھائی کہتے ہیں لفظ ”اَنْسَ“ اس طرح ہے۔ نون اور سین دونوں ساکن ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ حافظ محمد فاروق

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور خادم اَنْسِبن مالک سوال کے نام نامی اور اسم گرامی کو ہمزہ اور نون کے فتح کے ساتھ پڑھا جائے گا مشہور و معروف لغت دان صاحب قاموس لکھتے ہیں۔ ”وَالْاَنْسُ مَحْرُکَةٌ اِنْجَانَةٌ کَثِیْرَةٌ، وَالْحِجُّ النِّقْمُونَ وَبِلَالٍ خَادِمُ النَّبِیِّ صَلَّى اللہُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ“ [اور اَنْس حرکت کے ساتھ بہت زیادہ جماعت اور رہائشی قبیلہ اور بغیر لام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں] رہا لفظ اَنْس بسکون نون و بفتح یا ضمہ ہمزہ تو وحشت کی ضد کو کہتے ہیں مصدر ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

قرآن وحدیث کی روشنی میں احکام ومسائل

جلد 01 ص 545

محدث فتویٰ